

سورة الحج

مکہ
سورة نمبر: ۱۵ آیات: ۹۹

۱. الر، یہ کتاب الہی کی آیتیں ہیں اور کھلی اور روشن قرآن کی۔

۲. وہ وقت بھی ہوگا کہ کافر اپنے مسلمان ہونے کی آرزو کریں گے۔

۳. آپ انہیں کھاتا، نفع اٹھاتا اور (جھوٹی) امیدوں میں مشغول ہوتا چھوڑ دیجئے یہ خود بھی جان لیں گے۔

۴. کسی بستی کو ہم نے ہلاک نہیں کیا مگر یہ کہ اس کے لئے مقررہ نوشتہ تھا

۵. کوئی گروہ اپنی موت سے نہ آگے بڑھتا نہ پیچھے رہتا۔

۶. انہوں نے کہا اے وہ شخص جس پر قرآن اتارا گیا ہے یقیناً تو تو کوئی دیوانہ ہے۔

۷. اگر تو سچا ہی ہے تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لاتا۔

۸. ہم فرشتوں کو حق کے ساتھ ہی اتارتے ہیں اور اس وقت وہ مہلت دئے گئے نہیں ہوتے۔

۹. ہم نے ہی اس قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔

۱۰. ہم نے آپ سے پہلے اگلی امتوں میں بھی رسول (برابر) بھیجے۔

۱۱. اور (لیکن) جو بھی رسول آتا وہ اس کا مذاق اڑاتے۔

۱۲. گناہگاروں کے دلوں میں ہم اسی طرح ہی رجا دیا کرتے ہیں۔

۱۳. وہ اس پر ایمان نہیں لاتے اور یقیناً اگلوں کا طریقہ گزرا ہوا ہے۔

۱۴. اور اگر ہم ان پر آسمان کا دروازہ کھول بھی دیں اور یہ وہاں چڑھنے بھی لگ جائیں۔

۱۵. تب بھی یہی کہیں گے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے بلکہ ہم لوگوں پر جادو کر دیا گیا ہے۔

سُورَةُ الْحَجْرِ

۹۹

۱۵

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

الرَّتِّلِكَ ءَايَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْءَانٍ مُّبِينٍ ﴿۱﴾ رَبَّمَا يَوَدُّ

الذّٰلِیْنَ كَفَرُوْا لَوْ كَانُوْا مُسْلِمِیْنَ ﴿۲﴾ ذَرَهُمْ یَاكُلُوْا

وَيَتَمَتَّعُوْا وَيُلٰهَهُمُ الْاَمَلُ فَسَوْفَ یَعْمَلُوْنَ ﴿۳﴾ وَمَا اَهْلَكْنَا

مِنْ قَرْیَةٍ اِلَّا وِلٰهَا كِتَابٌ مَّعْلُوْمٌ ﴿۴﴾ مَا تَسْبِقُ مِنْ اُمَّةٍ

اَجَلَهَا وَمَا یَسْتَخِرُوْنَ ﴿۵﴾ وَقَالُوْا یٰٓاٰیٰهَا الَّذِیْ نَزَّلَ عَلَیْهِ

الذّٰكِرُ اِنَّكَ لَمَجْنُوْنٌ ﴿۶﴾ لَوْ مَا تَاتٰیْنَا بِالْمَلٰٓئِكَةِ اِنْ كُنْتَ

مِنَ الصّٰدِقِیْنَ ﴿۷﴾ مَا نَزَّلَ الْمَلٰٓئِكَةَ اِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوْا

اِذَا مُنظَرِیْنَ ﴿۸﴾ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذّٰكِرَ وَاِنَّا لَهٗ وَحٰفِظُوْنَ ﴿۹﴾

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِی شِیْعِ الْاَوَّلِیْنَ ﴿۱۰﴾ وَمَا یَاْتِیْهِمْ

مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ یَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿۱۱﴾ كَذٰلِكَ نَسْلُكُهٗ و

فِی قُلُوْبِ الْمُجْرِمِیْنَ ﴿۱۲﴾ لَا یُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَوَقَدْ خَلَّتْ سُنَّةُ الْاَوَّلِیْنَ

﴿۱۳﴾ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَیْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمٰوٰتِ فَظَلُّوْا فِیْهِ یَعْرَجُوْنَ ﴿۱۴﴾

لَقَالُوْا اِنَّمَا سَكَّرَتْ اَبْصُرُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُوْرُوْنَ ﴿۱۵﴾

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ ﴿١٦﴾

اور البتہ تحقیق بنائے ہم نے میں آسمان مضبوط قلعے اور خوبصورت بنا دیا دیکھنے والوں کے لئے ۱۵:۱۶

وَحَفِظْنَاَهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ ﴿١٧﴾ إِلَّا مَنْ أَسْرَقَ السَّمْعَ

اور حفاظت کی ہم نے اس کی سے ہر شیطان (مردود ہے) ۱۵:۱۷ مگر جس نے جرایا سنا

فَاتَّبَعَهُ وَشَهَابٌ مُبِينٌ ﴿١٨﴾ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا

تو بیچھا کرتا ہے اس کا ایک شعلہ روشن ۱۵:۱۸ اور زمین (کو) پھیلا دیا ہم نے اس کو اور ڈالے ہم نے اس میں

رَوَاسِيٍّ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْرُودٍ ﴿١٩﴾ وَجَعَلْنَا الْكُرُ

پہاڑیں اور آگائی ہم نے اس میں سے ہر طرح چیز موزوں - مناسب ۱۵:۱۹ اور بنائے ہم نے تمہارے لئے

فِيهَا مَعْيِشٍ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ وَبَرَاقِينَ ﴿٢٠﴾ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا

اس میں اسباب معیشت - اور ان کے لئے نہیں تم اس کے رزق دینے والے ۱۵:۲۰ اور نہیں کوئی بھی چیز مگر

عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ ﴿٢١﴾ وَأَرْسَلْنَا

ہمارے پاس اس کے خزانے ہیں اور نہیں ہم اتارنے مگر ساتھ ایک جو معلوم ہے ۱۵:۲۱ اور بھیجتے ہیں ہم

الرِّيْحَ لَوْحٍ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ

ہواؤں کو بار اور بنا کر - پھر نازل کیا ہم نے سے آسمان پانی پس بلایا ہم نے تم کو اسے اور نہیں تم

لَهُ وَبِخَزَائِنِ ﴿٢٢﴾ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِيهِ وَنُمِيتُهُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ ﴿٢٣﴾

اس کو ذخیرہ کرنے والے ۱۵:۲۲ اور بیشک البتہ ہم ہی ہم زندہ اور ہم موت دیتے ہیں اور ہم وارث ہیں ۱۵:۲۳

وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَخْرِينَ

اور البتہ جان لیا ہم نے اگے بڑھنے والوں کو تم میں سے اور البتہ تحقیق جان لیا ہم نے پیچھے رہنے والوں کو

﴿٢٤﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥﴾ وَلَقَدْ خَلَقْنَا

۱۵:۲۴ اور بیشک تیار رہ وہ اکٹھا کرے گا ان کو بیشک وہ حکمت والا ہے علم والا ہے ۱۵:۲۵ اور البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے

الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ﴿٢٦﴾ وَالْجَانَ خَلَقْتَهُ مِنْ

انسان کو سے کھنکتی مٹی سے - کیچڑ سیاہ گارے سڑی ہوئی ۱۵:۲۶ اور جنوں کو سے پیدا کیا ہم نے ان کو

قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُورِ ﴿٢٧﴾ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي خَلَقْتُ بَشَرًا

اس سے سے آگ لو والی ۱۵:۲۷ اور جب فرمایا تیرے رب نے فرشتوں کو بیشک پیدا کرنے والا ہوں ایک انسان

مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ﴿٢٨﴾ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَوَضَعْتُ فِيهِ

سے کھنکتی مٹی سے سیاہ گارے سڑے ہوئے ۱۵:۲۸ پھر جب برابر کیا میں نے اور پھونکا میں نے اس میں

مِنْ رُّوحِي فَقَعُوْا لَهُ وَسَجِدْ لَهُ ﴿٢٩﴾ فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ

سے اپنی روح تو گر پڑے کے لئے اس سجدہ کرتے ہوئے ۱۵:۲۹ تو سجدہ کیا فرشتوں نے سب کے سب نے

أَجْمَعُونَ ﴿٣٠﴾ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّٰجِدِينَ ﴿٣١﴾

سب نے اکٹھے ۱۵:۳۰ سوئے ابلیس کے انکار کیا کہ وہ ہو ساتھ سجدہ کرنے والوں کے ۱۵:۳۱

سَبَّحْتَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَرَبُّكَ اَكْبَرُ ﴿٣٢﴾

تسبیح کرتے تھے اللہ کو جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور تیرا رب بڑا بڑا ہے ۱۵:۳۲

۱۶. یقیناً ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں

اور دیکھنے والوں کے لئے اسے سجا دیا ہے۔

۱۷. اور اسے ہر مردود شیطان سے محفوظ رکھا ہے

۱۸. ہاں مگر جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرے اس کے پیچھے دھکتا ہوا (کھلا شعلہ) لگتا ہے۔

۱۹. اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا ہے اور اس پر (اٹل) پہاڑ ڈال دیے، اور اس میں ہم نے ہر چیز ایک معین مقدار سے آگادی۔

۲۰. اور اسی میں ہم نے تمہاری روزیاں بنا دی ہیں اور جنہیں تم روزی دینے والے نہیں ہو۔

۲۱. اور جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے خزانے ہمارے پاس ہیں اور ہم ہر چیز کو اس کے مقررہ انداز سے اتارتے ہیں۔

۲۲. اور ہم بھیجتے ہیں بوجھل ہوائیں پھر آسمان سے پانی برسائے کہ وہ تمہیں پلاتے ہیں اور تم اس کا ذخیرہ کرنے والے نہیں ہو۔

۲۳. ہم ہی جلاتے اور مارتے ہیں اور ہم ہی (بالآخر) وارث ہیں۔

۲۴. اور تم میں سے آگے بڑھنے والے اور پیچھے پٹنے والے بھی ہمارے علم میں ہیں۔

۲۵. آپ کا رب سب لوگوں کو جمع کرے گا یقیناً وہ بڑی حکمتوں والا ہے۔

۲۶. یقیناً ہم نے انسان کو کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے، پیدا فرمایا ہے۔

۲۷. اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا۔

۲۸. اور جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک انسان کو کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں۔

۲۹. تو جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لئے سجدے میں گر پڑنا۔

۳۰. چنانچہ تمام فرشتوں نے سب کے سب نے سجدہ کر لیا۔

۳۱. مگر ابلیس کے، کہ اس نے سجدہ کرنے والوں میں شمولیت کرنے سے صاف انکار کر دیا۔

۳۲. (اللہ تعالیٰ نے) فرمایا اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟

۳۳. وہ بولا کہ میں ایسا نہیں کہ اس انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے کالی اور سڑی ہوئی کہنکھناتی مٹی سے پیدا کیا ہے۔

۳۴. فرمایا اب تو بہشت سے نکل جا کیونکہ تو راندہ درگاہ ہے۔

۳۵. تجھ پر میری پھٹکار ہے قیامت کے دن تک۔

۳۶. کہنے لگا میرے رب! مجھے اس دن تک کی ڈھیل دے کہ لوگ دوبارہ اٹھ کھڑے کیئے جائیں۔

۳۷. فرمایا کہ اچھا تو ان میں سے ہے جنہیں مہلت ملی ہے۔

۳۸. روز مقرر کے وقت تک۔

۳۹. (شیطان نے) کہا اے میرے رب! چونکہ

تو نے مجھے گمراہ کیا ہے مجھے بھی قسم ہے

کہ میں بھی زمین میں ان کے لئے معاصی کو

مزین کروں گا اور ان سب کو بہکاؤں گا بھی۔

۴۰. سوائے تیرے ان بندوں کے جو منتخب

کر لئے گئے ہیں۔

۴۱. ارشاد ہوا کہ ہاں یہی مجھ تک پہنچنے

کی سیدھی راہ ہے

۴۲. میرے بندوں پر تجھے کوئی غلبہ نہیں

لیکن ہاں جو گمراہ لوگ تیری پیروی کریں۔

۴۳. یقیناً سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے

۴۴. جس کے سات دروازے ہیں۔ ہر دروازے

کے لئے ان کا ایک حصہ بنا ہوا ہے

۴۵. پرہیزگار جنتی لوگ باغوں اور چشموں

میں ہونگے

۴۶. (ان سے کہا جائیگا) سلامتی اور امن کے

ساتھ اس میں داخل ہوجاؤ۔

۴۷. ان کے دلوں میں جو کچھ رنجش و کینہ

تھا، ہم سب کچھ نکال دیں گے، وہ بھائی

بھائی بنے ہوئے ایک دوسرے کے آمنے سامنے

تختوں پر بیٹھے ہونگے۔

۴۸. نہ تو وہاں انہیں کوئی تکلیف چھو سکتی

ہے اور نہ وہاں سے کبھی نکالے جائیں گے۔

۴۹. میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں

بہت ہی بخشنے والا اور بڑا مہربان ہوں۔

۵۰. ساتھ ہی میرے عذاب بھی نہایت

دردناک ہیں۔

۵۱. انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا (بھی)

حال سنادو۔

قَالَ يَا ابْلِيسُ مَا لَكَ اَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ﴿٣٢﴾ قَالَ لَمَّا كُنْ

فرمایا اے ابلیس کیا ہے تجھ کو کہ نہیں ہے تو ساتھ سجدہ کرنے والوں کے ۱۵:۳۲ اس نے کہا نہیں ہوں میں

لَا سَجْدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ وَمِنْ صَاصِلٍ مِّنْ حَمَائِمٍ مِّنْ سَنُونٍ ﴿٣٣﴾

کہ میں سجدہ کروں کسی انسان کو پیدا کیا تو نے اس کو سے کہنکتی مٹی سے بچتی مٹی سے ۱۵:۳۳ سڑے ہوئے

قَالَ فَاخْرِجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿٣٤﴾ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ

فرمایا پس نکل جا اس سے توبیشک تو مردود ہے ۱۵:۳۴ اور بیشک تجھ پر لعنت ہے تک دن

الَّذِينَ ﴿٣٥﴾ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿٣٦﴾ قَالَ فَإِنَّكَ

جزا (روز جزا تک) ۱۵:۳۵ بولا اے میرے رب مہلت دے مجھ کو تک دن وہ سب اٹھائے جائیں گے ۱۵:۳۶ فرمایا توبیشک تو

مِنَ الْمُنْظَرِينَ ﴿٣٧﴾ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴿٣٨﴾ قَالَ رَبِّ بِمَا

سے مہلت دئے جانے والوں میں سے ہے ۱۵:۳۷ تک دن کے جو وقت ہے معلوم ۱۵:۳۸ اس نے کہا اے میرے رب جو

أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ

تو نے بے راہ کیا مجھ کو ۱۵:۳۹ البتہ میں ضرور خوبصورت بنا دوں گا۔ البتہ میں ان کے لئے میں زمین اور البتہ میں ضرور بہکاؤں گا ان کو سب کے سب کو

﴿٣٩﴾ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴿٤٠﴾ قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ

۱۵:۴۰ سوائے تیرے بندوں کے ان میں سے جو چنے ہوئے ہیں۔ خالص ہیں ۱۵:۴۰ فرمایا یہ راستہ ہے مجھ تک

مُسْتَقِيمٌ ﴿٤١﴾ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ

سیدھا ۱۵:۴۱ بیشک میرے بندے نہیں تیرے لئے ان پر کوئی زور مگر جو

اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴿٤٢﴾ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٤٣﴾

پیروی کرے تیری سے بھکے ہوؤں میں ۱۵:۴۲ اور بیشک جہنم البتہ ان کے وعدے کی جگہ ہے سب کے سب کی ۱۵:۴۳

لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ﴿٤٤﴾ إِنَّ

اس کے سات دروازے ہیں ہر کے لئے دروازے (کے لئے) ان میں سے ایک حصہ ہے مخصوص ۱۵:۴۴ بیشک

الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٤٥﴾ أَدْخُلُوهَا بِسَلَامَةٍ أَمِينٍ ﴿٤٦﴾

متقی لوگ میں باغوں میں اور چشموں میں ۱۵:۴۵ داخل ہوجاؤ ان میں سلامتی کے ساتھ امن سے رہنے والے ۱۵:۴۶

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ

اور ہم نکال دیں گے ان کے سینوں میں سے (بے) بغض میں بھائی بھائی بن کے بر تختوں پر آمنے سامنے ہوں گے

﴿٤٧﴾ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴿٤٨﴾

۱۵:۴۷ نہیں چھوئے گی ان کو اس میں کوئی تھکاوٹ اور نہیں وہ اس میں سے نکالے جانے والے ۱۵:۴۸

* نَبِيِّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٤٩﴾ وَأَنَّ عَذَابِي

خبر دے دو میرے بندوں کو میں ہی بیشک میں ہی بخشنے والا ہوں رحم کرنے والا ہوں ۱۵:۴۹ اور بیشک میرا عذاب

هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ﴿٥٠﴾ وَنَبِّئُهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ ﴿٥١﴾

وہ ایسا عذاب ہے جو دردناک ہے ۱۵:۵۰ اور بتادو ان کو بارے مہمانوں کے بارے میں ابراہیم کے ۱۵:۵۱

إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ ﴿٥٢﴾ قَالُوا

جب وہ داخل ہوئے اس پر تو انہوں نے کہا سلام (ہو تم پر) وہ بولے بیشک تم سے ڈرنے والے ہیں ۱۵:۵۲ انہوں نے کہا

لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ﴿٥٣﴾ قَالَ ابْتَرْتُمُونِي عَلَىٰ أَنْ

مت ڈرو بیشک ہم بشارت دیتے لوگ کی علم والے ۱۵:۵۳ کہا کیا تم خوشخبری دیتے ہو مجھ کو اس بات کا باوجود کہ

مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فِيمَا تَبَشِّرُونَ ﴿٥٤﴾ قَالُوا بَشِّرْنَاكَ بِالْحَقِّ

پہنچا مجھ کو بڑھاپا پس ساتھ کس تم خوشخبری دیتے ہو ۱۵:۵۴ انہوں نے کہا خوشخبری دیتے ہیں ہم تجھ کو ساتھ حق کے

فَلَا تَكُن مِّنَ الْقَانِطِينَ ﴿٥٥﴾ قَالَ وَمَنْ يَقْنُطُ مِن رَّحْمَةِ

پس نہ تو ہو سے مایوس ہونے والوں میں سے ۱۵:۵۵ اور کون مایوس ہوسکتا ہے سے رحمت سے

رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ ﴿٥٦﴾ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ

اپنے رب کی مگر وہ جو بہتکے ہوئے ہوں- ۱۵:۵۶ کہا تو کیا معاملہ ہے تمہارا اے بھیجے ہوئے- اے فرشتو

﴿٥٧﴾ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ﴿٥٨﴾ إِلَّا آلَ لُوطٍ

۱۵:۵۷ انہوں نے کہا بیشک بھیجے گئے ہم طرف قوم کی مجرم ۱۵:۵۸ سوائے آل لوط کے

إِنَّا لَمَنْجُوهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥٩﴾ إِلَّا أُمَّرَأَتَهَا وَقَدَرْنَا بِأَنَّهَا لَمِنَ

بیشک البتہ نجات دینے والے سب کے سب کو ۱۵:۵۹ سوائے اس کی بیوی کے مقدر کر دیا ہم نے بیشک وہ البتہ سے

الْغَابِرِينَ ﴿٦٠﴾ فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ ﴿٦١﴾ قَالَ

بیچھے رہنے والوں میں سے ہے ۱۵:۶۰ توجہ آگے آل لوط کے پاس بھیجے ہوئے ۱۵:۶۱ اس نے کہا

إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنْكَرُونَ ﴿٦٢﴾ قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ

بیشک تم لوگ ہو اجنبی ۱۵:۶۲ انہوں نے بلکہ ہم لائے تیرے پاس کے ساتھ اس تھے وہ اس میں

يَمْتَرُونَ ﴿٦٣﴾ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿٦٤﴾ فَاسْرِبْ

شک کرتے ۱۵:۶۳ اور لائے ہیں ہم حق کو اور بیشک البتہ سچے ہیں ۱۵:۶۴ بس لے چل

بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ

اپنے گھر والوں کو نکلنے میں- کے رات کے اور بیروی کرو- ان کے پیچھے اور نہ التفات کرے- تم میں سے کوئی ایک

وَأَمْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ﴿٦٥﴾ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَٰلِكَ الْأَمْرَانَ

اور چلے جاؤ جہاں تم حکم دیے جاتے ہو ۱۵:۶۵ اور فیصلہ کر دیا ہم نے- اس کی طرف- اس معاملے کا بیشک

دَابِرَهُمْ وَأُولَآئِ مَقْطُوعٌ مُّصْبِحِينَ ﴿٦٦﴾ وَجَاءَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ

جز ان لوگوں کی کانٹا ہوا ہوگا صبح ہوتے ہی ۱۵:۶۶ اور لے والے شہر والے

يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٦٧﴾ قَالَ إِنِّ هَؤُلَاءِ ضَيَّفْتَنِي فَلَا تَقْضَحُونِ

خوشیاں مناتے ہوئے ۱۵:۶۷ لوط نے کہا بیشک یہ لوگ میرے مہمان ہیں پس نہ تم رسوا کرو مجھ کو ۱۵:۶۸

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ ﴿٦٨﴾ قَالُوا أَوْلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ

اور ڈرو اللہ سے اور نہ تم نے عزت کرو مجھ کو- کو- رسوا کرو مجھ کو ۱۵:۶۸ انہوں نے کہا کیا پہلا ہم روکنے تجھ کو سے سب جہاں والوں سے ۱۵:۷۰

﴿٧٠﴾ وَهَؤُلَاءِ سَوَّاهُكُمْ عَلَيْهِمْ كَمَا سَوَّاهُكُمْ عَلَيْهِمْ كَمَا سَوَّاهُكُمْ عَلَيْهِمْ كَمَا سَوَّاهُكُمْ عَلَيْهِمْ

۱۵:۷۰ وہ بولے کیا ہم نے تجھے دنیا بھر (کی

۵۲. کہ جب انہوں نے ان کے پاس آکر سلام کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم کو تو ڈر لگتا ہے۔

۵۳. انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم تجھے ایک صاحب علم فرزند کی بشارت دیتے ہیں۔

۵۴. کہا، کیا اس بڑھاپے کے آجانے کے بعد تم مجھے خوشخبری دیتے ہو! یہ خوشخبری تم کیسے دے رہے ہو؟

۵۵. انہوں نے کہا ہم آپ کو بالکل سچی خوشخبری سناتے ہیں آپ مایوس لوگوں میں شامل نہ ہوں۔

۵۶. کہا اپنے رب تعالیٰ کی رحمت سے نا امید تو صرف گمراہ اور بہکے ہوئے لوگ ہی ہوتے ہیں۔

۵۷. پوچھا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے (فرشتو) تمہارا ایسا کیا اہم کام ہے؟

۵۸. انہوں نے جواب دیا کہ ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔

۵۹. مگر خاندان لوط کہ ہم ان سب کو ضرور بچالیں گے

۶۰. سوائے اس (لوط) کی بیوی کے کہ ہم نے اسے رکنے اور باقی رہ جانے والوں میں مقرر کر دیا ہے۔

۶۱. جب بھیجے ہوئے فرشتے آل لوط کے پاس پہنچے۔

۶۲. تو انہوں (لوط علیہ السلام) نے کہا تم لوگ تو کچھ انجان سے معلوم ہو رہے ہو۔

۶۳. انہوں نے کہا نہیں بلکہ ہم تیرے پاس وہ چیز لائے ہیں جس میں یہ لوگ شک شبہ کر رہے تھے۔

۶۴. ہم تیرے پاس (صریح) حق لائے ہیں اور ہمیں بھی بالکل سچے۔

۶۵. اب تو اپنے خاندان سمیت اس رات کے کسی حصہ میں چل دے اور آپ ان کے پیچھے رہنا، اور (خبردار) تم میں سے (پیچھے) مڑ کر بھی نہ دیکھے اور جہاں کا تمہیں حکم کیا جا رہا ہے وہاں چلے جانا۔

۶۶. ہم نے اس کی طرف اس بات کا فیصلہ کر دیا کہ صبح ہو تے ہوئے ان لوگوں کی جڑیں کاٹ دی جائیں گی۔

۶۷. اور شہر والے خوشیاں مناتے ہوئے آئے۔

۶۸. (لوط علیہ السلام نے) کہا یہ لوگ میرے مہمان ہیں تم مجھے رسوا نہ کرو۔

۶۹. اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو۔

۷۰. وہ بولے کیا ہم نے تجھے دنیا بھر (کی

ٹھیکیداری) سے منع نہیں کر رکھا؟

۷۱. (لوط علیہ السلام نے) کہا اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یہ میری بچیاں موجود ہیں۔
۷۲. تیری عمر کی قسم! وہ تو اپنی بد مستی میں سرگرداں تھے۔
۷۳. پس سورج نکلتے نکلتے انہیں ایک بڑے زور کی آواز نے پکڑ لیا۔
۷۴. بالآخر ہم نے اس شہر کو اوپر تلے کر دیا اور ان لوگوں پر کنکر والے پتھر برسائے۔
۷۵. بلاشبہ بصیرت والوں کے لئے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔
۷۶. یہ بستی راہ پر ہے جو برابر چلتی رہتی (عام گزرگاہ) ہے۔
۷۷. اور اس میں ایمان داروں کے لئے بڑی نشانی ہے۔
۷۸. ایک بستی کے رہنے والے بھی بڑے ظالم تھے
۷۹. جن سے (آخر) ہم نے انتقام لے ہی لیا۔ یہ دونوں شہر کھلے (عام) راستے پر ہیں
۸۰. اور حجر والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا
۸۱. اور ہم نے اپنی نشانیاں بھی عطا فرمائیں (لیکن) تاہم وہ ان سے روگردانی ہی کرتے رہے۔
۸۲. یہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے، بے خوف ہو کر۔
۸۳. آخر انہیں بھی صبح ہوتے ہوتے چنگھاڑ نے آدبوجا۔
۸۴. پس ان کی کسی تدبیر و عمل نے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا۔
۸۵. ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا ہے، اور قیامت ضرور ضرور آنے والی ہے۔ پس تو حسن و خوبی (اور اچھائی) سے درگزر کر لے۔
۸۶. یقیناً تیرا پروردگار ہی پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے۔
۸۷. یقیناً ہم نے سات آیتیں دے رکھی ہیں کہ وہ دہرائی جاتی ہیں اور عظیم قرآن بھی دے رکھا ہے۔
۸۸. آپ ہرگز اپنی نظریں اس چیز کی طرف نہ دوڑائیں، جس سے ہم نے ان میں سے کئی قسم کے لوگوں کو بہرہ مند کر رکھا ہے، نہ ان پر آپ افسوس کریں اور مومنوں کے لئے اپنے بازو جھکائے رہیں۔
۸۹. اور کہہ دیجئے کہ میں تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔
۹۰. جیسے کہ ہم نے ان تقسیم کرنے والوں پر اتارا۔

- قَالَ هَؤُلَاءِ بنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ فَعَلِينَ ﴿٧١﴾ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿٧٢﴾ فَأَخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴿٧٣﴾ فَجَعَلْنَا عَلَيْهِمَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ ﴿٧٤﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّمُتَوَسِّمِينَ ﴿٧٥﴾ وَإِنَّهَا لِبَسْبِيلٍ مَّقِيمٍ ﴿٧٦﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٧﴾ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ ظَالِمِينَ ﴿٧٨﴾ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ ﴿٧٩﴾ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحَجَرِ الْمُرْسَلِينَ ﴿٨٠﴾ وَعَآئِنَهُمْ ءَايَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٨١﴾ وَكَانُوا يُنَجِّتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا ءَامِنِينَ ﴿٨٢﴾ فَأَخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ﴿٨٣﴾ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨٤﴾ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَأَصْفَحْ أَلصَّفْحَ الْجَمِيلِ ﴿٨٥﴾ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ﴿٨٦﴾ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْءَانَ الْعَظِيمَ ﴿٨٧﴾ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٨﴾ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ ﴿٨٩﴾ كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ ﴿٩٠﴾
- اس نے کہا یہ میری بیٹیاں ہیں اگر ہو تم کچھ کرنے والے ۱۵:۷۱ تیری زندگی کی قسم بیشک وہ البتہ میں اپنے نشے میں
- بہکے ہوئے تھے۔ ۱۵:۷۲ تو پکڑ لیا ان کو ایک چنگھاڑنے دن چڑھے ۱۵:۷۳ تو کر دیا ہم نے والے حصے کو اس کے اوپر
- اس کا نچلا حصہ اور برسائے ہم نے ان پر پتھر سے بکی ہوئی مٹی کے ۱۵:۷۴ بیشک میں اس
- البتہ نشانیاں ہیں اہل فراست کے لئے ۱۵:۷۵ اور بیشک وہ البتہ ایک راستے پر ہیں قائم۔ موجود ۱۵:۷۶ بیشک میں اس
- البتہ ایک ایمان لانے والوں کے لئے ۱۵:۷۷ اور بیشک تھے والے جنگل البتہ ظلم کرنے والے ۱۵:۷۸
- تو انتقام لیا ہم نے ان سے اور بیشک وہ دونوں البتہ راستے پر تھے واضح ۱۵:۷۹ اور البتہ تحقیق جھٹلایا والوں نے
- حجر (والوں نے) رسولوں کو ۱۵:۸۰ اور دیں ہم نے ان کو اپنی نشانیاں تو تھے وہ ان سے اعراض برتنے والے
- ۱۵:۸۱ اور وہ تھے تراش لیتے سے پہاڑوں میں (سے) کھروں کو امن سے رہنے والے ۱۵:۸۲ تو پکڑ لیا ان کو
- چینے ۱۵:۸۳ صبح ہوتے ہی تونہ کام لے ان کو جو تھے وہ کچھ وہ کہانی کرتے ۱۵:۸۴
- اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو ان دونوں کے مگر حق کے ساتھ اور بیشک
- قیامت البتہ آنے والی ہے پس درگزر کرو درگزر کرنا خوبصورت ۱۵:۸۵ بیشک رب تیرا وہی
- پیدا کرنے والا جاننے والا ۱۵:۸۶ اور البتہ تحقیق دیں ہم نے آپ کو سات سے دہرائی جانے والی میں
- اور قرآن عظیم ۱۵:۸۷ نہ تولہی کر۔ اپنی دونوں طرف جو فائدہ دیا ساتھ کئی قسموں کو۔
- ان میں سے اور نہ تم غم کر ان پر اور جھکا لے اپنا کندھا مومنوں کے لئے ۱۵:۸۸ اور کہہ دیجئے
- بیشک میں ڈرانے والا ہوں کہلم کھلا ۱۵:۸۹ جیسا کہ نازل کیا ہم نے بر بانٹ لینے والوں ۱۵:۹۰

۹۱. جنہوں نے اس کتاب الہی کو ٹکڑے ٹکڑے کر دئے

۹۲. قسم ہے تیرے پالنے والے کی! ہم ان سب سے ضرور باز پرس کریں گے۔

۹۳. ہرجیز کی جو وہ کرتے تھے۔

۹۴. پس آپ اس حکم کو جو آپ کو کیا جا رہا ہے کھول کر سنا دیجئے اور مشرکوں سے منہ پھیر لیجئے۔

۹۵. آپ سے جو لوگ مسخر اپن کرتے ہیں ان کی سزا کے لئے ہم کافی ہیں۔

۹۶. جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود مقرر کرتے ہیں انہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا۔

۹۷. ہمیں خوب علم ہے کہ ان باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے۔

۹۸. آپ اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد بیان کرتے رہیں اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔

۹۹. اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو موت آجائے۔

سورة النحل

مکہ
سورہ نمبر: ۱۶ آیات: ۱۲۸

۱. اللہ تعالیٰ کا حکم آپہنچا، اب اس کی جلدی نہ مچاؤ، تمام پاکی اس کے لئے ہے وہ برتر ہے ان سب سے جنہیں یہ اللہ کے نزدیک شریک بتلاتے ہیں۔

۲. وہی فرشتوں کو اپنی وحی دے کر اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اتارتا ہے کہ تم لوگوں کو آگاہ کر دو کہ میرے سوا اور کوئی معبود نہیں، پس تم مجھ سے ڈرو۔

۳. اسی نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، وہ اس سے بری ہے جو مشرک کرتے ہیں۔

۴. اس نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا پھر وہ صریح جھگڑالو بن بیٹھا۔

۵. اسی نے چوپائے پیدا کئے جن میں تمہارے لئے گرم لباس ہیں اور بھی بہت سے نفع ہیں اور بعض تمہارے کھانے کے کام آتے ہیں۔

۶. ان میں تمہاری رونق بھی ہے جب چرا کر لاؤ تب بھی اور جب چرانے لے جاؤ تب بھی۔

الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ۹۱ فَوَرَبِّكَ لَنَسَعَنَّهُمْ

وہ لوگ جنہوں نے کردیا قرآن کو نکتے نکتے۔ پارہ پارہ ۱۵:۹۱ پس قسم ہے تیرے رب کی کہیں ہم ضرور سوال کریں گے ان سے

أَجْمَعِينَ ۹۲ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۹۳ فَأَصْدَعُ بِمَا تَوْمَرُ وَأَعْرِضُ

سب کے سب سے ۱۵:۹۲ اس چیز کے بارے میں جو تمہارے عمل کرتے ۱۵:۹۳ پس کھول کر سنا دو۔ ساتھ اس تم حکم دئے اور اعراض برتو سنا دیجئے کے جو

عَنِ الْمُشْرِكِينَ ۹۴ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ۹۵ الَّذِينَ

سے ۱۵:۹۴ مشرکوں سے کافی ہیں ہم آپ کو مذاق اڑانے والوں سے ۱۵:۹۵ وہ لوگ

يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۹۶ وَلَقَدْ نَعْلَمُ

جو بنا لیتے ہیں ساتھ اللہ کے الہ دوسرا ۱۵:۹۶ اور اللہ تحقیق ہم جانتے ہیں وہ جان لیں گے

أَنَّكَ يَصِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ۹۷ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ

کہ بیشک آپ تنگ ہوتا ہے ۱۵:۹۷ آپ کا سینہ بوجھ اس کے جو وہ کہتے ہیں ۱۵:۹۷ پس تسبیح حمد کے ساتھ اپنے رب کی اور بوجھائے

مِّنَ السَّاجِدِينَ ۹۸ وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ۹۹

سے ۱۵:۹۸ سجدہ کرنے والوں میں سے اور عبادت کیجئے اپنے رب کی یہاں تک آجائے آپ کے پاس یقین۔ موت ۱۵:۹۹

سورة النحل

۱۲۸

۱۶

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

أَتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ

آگیا فیصلہ اللہ کا پس نہ جلدی مانگو اس کو پاک ہے وہ اور بلند ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہرا رہتے ہیں

۱. يُنزِلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ

۱۶:۱ اتارتا ہے فرشتوں کو ۱۶:۱ ساتھ وحی کے۔ سے اپنے حکم سے اوپر جس کے وہ چاہتا ہے سے

عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ ۲ خَلَقَ

اپنے بندوں میں سے کہ قرآؤ۔ خبردار کرو بیشک وہ نہیں کوئی الہ مگر میں ۱۶:۲ پس ڈرو مجھ سے اس نے پیدا کیا

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِالْحَقِّ تَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۳ خَلَقَ

آسمانوں کو اور زمین کو ساتھ حق کے بلند ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں ۱۶:۳ اس نے پیدا کیا

الإنسَنَ مِنْ نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ۴ وَاللَّعَنَ

انسان کو سے ایک نطفے سے تو ناگہاں وہ جھگڑالو ہے کہلم کہلا ۱۶:۴ اور جووائے

۵. خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

اس نے پیدا کیا ان کو تمہارے لئے ان میں گرمی کا سامان ہے اور فائدے ہیں اور ان میں سے تم کھاتے ہو

۶. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ۶

۱۶:۶ اور تمہارے لئے اس میں خوبصورتی ہے جس وقت تم شام کو جگا لاتے ہو اور جس وقت تم صبح چرکے جاتے ہو ۱۶:۶

۷. اور وہ تمہارے بوجھ ان شہروں تک اٹھا لے جاتے ہیں جہاں تم آدمی جان کئے پہنچ ہی نہیں سکتے تھے۔ یقیناً تمہارا رب بڑا شفیق اور نہایت مہربان ہے۔

۸. گھوڑوں کو، خچروں کو گدھوں کو اس نے پیدا کیا کہ تم ان کی سواری لو اور وہ باعث زینت بھی ہیں۔ اور بھی ایسی بہت سی چیزیں پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم نہیں۔

۹. اور اللہ پر سیدھی راہ کا بتا دینا ہے اور بعض ٹیڑھی راہیں ہیں، اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو راہ راست پر لگا دیتا۔

۱۰. وہی تمہارے فائدے کے لئے آسمان سے پانی برساتا ہے جسے تم پیتے ہو اور اسی سے آگے ہوئے درختوں کو تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو۔

۱۱. اسی سے وہ تمہارے لئے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل آگاتا ہے بیشک ان لوگوں کے لئے تو اس میں بڑی نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں۔

۱۲. اسی نے رات دن اور سورج چاند کو تمہارے لئے تابع کر دیا ہے اور ستارے بھی اس کے حکم کے ماتحت ہیں، یقیناً اس میں عقلمند لوگوں کے لئے کئی ایک نشانیاں موجود ہیں۔

۱۳. اور بھی بہت سی چیزیں طرح طرح کے رنگ روپ کی اس نے تمہارے لئے زمین پر پھیلا رکھی ہے۔ بیشک نصیحت قبول کرنے والوں کے لئے اس میں بڑی بھاری نشانی ہے۔

۱۴. اور دریا بھی اس نے تمہارے بس میں کر دئے ہیں کہ تم اس میں سے (نکلا ہوا) تازہ گوشت کھاؤ اور اس میں سے اپنے پہننے کے زیورات نکال سکو اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس میں پانی چیرتی ہوئی (چلتی) ہیں اور اس لئے بھی کہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور ہو سکتا ہے کہ تم شکر گزاری

بھی کرو۔

وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ

اور اٹھاتے ہیں تمہارے بوجھ طرف اس شہر کے نہ تھے تم ادھر پہنچنے والے مگر سائے مشقت کے

الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرُءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿٧﴾ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ

نفسوں کی بیشک رب تمہارا البتہ شفقت کرنے والا مہربان ہے ۱۶:۷ اور گھوڑے اور خچر

وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨﴾

اور گدھے تاکہ تم سواری کرو ان پر اور زینت بھی ہیں اور وہ پیدا کرے گا اسے جو نہیں تم جانتے ۱۶:۸

وَعَلَىٰ اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ

اور پر ذمہ ہے اللہ کے سیدھا راستہ اور ان میں کچھ ٹیڑھے اور اگر وہ چاہتا البتہ ہدایت دے دیتا تم کو بھی نہیں

أَجْمَعِينَ ﴿٩﴾ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَّكُمْ

سب کے سب کو ۱۶:۹ وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے اتارا ہے آسمان سے پانی تمہارے لئے

مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجْرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ﴿١٠﴾ يُنْبِتُ لَكُمْ

اس میں سے پینا ہے اور اس میں سے درخت ہے جس میں تم چراتے ہو ۱۶:۱۰ وہ آگاتا ہے تمہارے لئے

بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ

ساتھ کھیتی کو اور زیتون اور کھجور کے درخت اور انگور اور سے ہر قسم کے اس کے

الشَّمْرَاتِ إِنِّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةٌ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

پھلوں میں سے یقیناً میں اس نشانی ہے البتہ ایک ایک قوم کے لئے جو غور و فکر کرتی ہو

﴿١١﴾ وَسَخَّرَ لَكُمْ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ

۱۶:۱۱ اور اس نے مسخر کیا تمہارے لئے رات کو اور دن کو اور سورج کو اور چاند کو

وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِ رَبِّ إِنِّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ

اور ستارے مسخر کئے گئے ہیں اس کے حکم سے بیشک میں اس میں البتہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لئے

يَعْقِلُونَ ﴿١٢﴾ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا

جو عقل رکھتی ہو ۱۶:۱۲ اور جو اسی نے پھیلا دیں تمہارے لئے میں زمین میں (مختلف چیزیں) مختلف ہیں

أَلْوَانَهُ إِنِّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةٌ لِّقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ﴿١٣﴾

رنگ اس کے یقیناً میں اس میں البتہ ایک نشانی ہے اس قوم کے لئے جو نصیحت پکرتی ہو ۱۶:۱۳

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا

اور وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے مسخر کیا سمندر کو تاکہ تم کھاؤ اس سے گوشت تازہ

وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَىٰ الْفُلَ كَمَا يَمُوجُ

اور تم نکالو اس سے زیور تم پہننے ہو اس کو اور تم دیکھتے ہو کشتیوں کو کہ پہاڑنے والی ہیں

فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٤﴾

اس میں اور تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل سے اور تاکہ تم شکر ادا کرو ۱۶:۱۴

وَالْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا

اور اس نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیئے تاکہ تمہیں لے کر پلے نہ اور نہریں اور راہیں بنادیں تاکہ تم منزل مقصود کو پہنچو۔

لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥﴾ وَعَلَّمَتِ وَالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ

تاکہ تم تمہاری ستاروں کے اور ساتھ ستاروں کے وہ راہ بتاتے ہیں

﴿١٦﴾ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿١٧﴾ وَإِن

کیا پہلا وہ جو پیدا کرتا ہے نہ کیسا ہے جو پیدا نہیں کر سکتا؟ کیا تم بالکل نہیں سوچتے۔

تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوْهَا إِنَّا اللَّهُ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٨﴾

تم گنا چاہو نعمتوں کو اللہ کی نہیں تم شمار کر سکتے ان کا بیشک اللہ تعالیٰ البتہ غفور رحیم ہے

وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسْرُونَ وَمَا تَعْلِنُونَ ﴿١٩﴾ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ

اور اللہ جانتا ہے جو چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور وہ لوگ جو دعا کرتے ہیں

مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿٢٠﴾ أَمْ أَوْتِ

سوا اللہ کے نہیں وہ پیدا کر سکتے کوئی چیز اور وہ پیدا کئے جاتے ہیں مردہ ہیں

غَيْرِ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿٢١﴾ إِلَهُكُمْ إِلَهُ

نہیں زندہ (نہیں) ہیں اور نہیں وہ شعور رکھتے کب وہ اٹھائے جائیں گے الہ تمہارا الہ ہے

وَاحِدٌ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُّنْكِرَةٌ وَهُمْ

ایک تو وہ لوگ نہیں جو ایمان لاتے آخرت پر ان کے دل انکاری ہیں اور وہ

مُسْتَكْبِرُونَ ﴿٢٢﴾ لَأَجْرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسْرُونَ وَمَا

تکبر کرنے والے ہیں کہ اللہ جانتا ہے جو چھپاتے ہیں اور جو وہ

يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ ﴿٢٣﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُم

ظاہر کرتے ہیں بیشک وہ نہیں پسند کرتا تکبر کرنے والوں کو اور جب کہا جاتا ہے ان سے

مَّاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسْطِيرُ الْأُولِينَ ﴿٢٤﴾ لِيَحْمِلُوا

کیا کچھ اتارا تمہارے رب نے وہ کہتے ہیں کہانیاں ہیں پہلوں کی تاکہ وہ اٹھالیں

أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ

اپنے بوجھ بوجھ کے بوجھ اور سے بوجھوں میں (سے) ان لوگوں کے یہ گمراہ کر رہے

بِغَيْرِ عِلْمٍ إِلَّا سَاءَ مَا يَزُرُونَ ﴿٢٥﴾ قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

بغیر علم کے خردار کتنا برابرے جو بوجھ وہ اٹھا رہے ہیں تحقیق جال جلی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے

فَاتَى اللَّهُ بُدْيَنَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَعَ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ

تو آیا اللہ ان کی عمارت کو سے بنیادوں سے تو گر پڑی انہی پر چھت

مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَتْهُمْ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٦﴾

سے ان کے اوپر (سے) اور آیا ان کے پاس عذاب سے جہاں (سے) نہ وہ شعور بھی (نہ) رکھتے تھے

۱۵. اور اس نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیئے تاکہ تمہیں لے کر پلے نہ اور نہریں اور راہیں بنادیں تاکہ تم منزل مقصود کو پہنچو۔

۱۶. اور بھی بہت سی نشانیاں مقرر فرمائیں اور ستاروں سے بھی لوگ راہ حاصل کرتے ہیں۔

۱۷. تو کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اس جیسا ہے جو پیدا نہیں کر سکتا؟ کیا تم بالکل نہیں سوچتے۔

۱۸. اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو تم اسے نہیں کر سکتے۔ بیشک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے

۱۹. اور جو کچھ تم چھپاؤ اور ظاہر کرو اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔

۲۰. اور جن جن کو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ وہ خود پیدا کئے ہوئے ہیں۔

۲۱. مردے ہیں زندہ نہیں انہیں تو یہ بھی شعور نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے۔

۲۲. تم سب کا معبود صرف اللہ تعالیٰ اکیلا اور آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل منکر ہیں اور وہ خود تکبر سے بھرے ہوئے ہیں۔

۲۳. بیشک و شبہ اللہ تعالیٰ پر اس چیز کو، جسے وہ لوگ چھپاتے ہیں اور جسے ظاہر کرتے ہیں، بخوبی جانتا ہے۔ وہ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا

۲۴. ان سے جب دریافت کیا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل فرمایا ہے؟ تو جواب دیتے ہیں کہ اگلوں کی کہانیاں۔

۲۵. اس کا نتیجہ ہوگا کہ قیامت کے دن یہ لوگ اپنے پورے بوجھ کے ساتھ ہی ان کے بوجھ کے حصے دار ہوں گے جنہیں بے علمی سے گمراہ کرتے رہے۔ دیکھو تو کیسا برا بوجھ اٹھا رہے ہیں۔

۲۶. ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی مکر کیا تھا، (آخر) اللہ نے (ان کے منصوبوں) کی عمارتوں کو جڑوں سے اکھیڑ دیا اور ان (کے سروں) پر (ان کی) چھتیں اوپر سے گر پڑیں اور ان کے پاس عذاب وہاں سے آگیا جہاں کا انہیں وہم و گمان بھی نہ تھا

۲۷. پھر قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ انہیں رسوا کرے گا اور فرمائے گا کہ میرے شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم لڑتے جھگڑتے تھے، جنہیں علم دیا گیا تھا وہ پکار اٹھیں گے کہ آج تو کافروں کو رسوائی اور برائی چمٹ گئی۔

۲۸. وہ جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، فرشتے جب ان کی جان قبض کرنے لگتے ہیں اس وقت وہ جھک جاتے ہیں کہ ہم برائی نہیں کرتے تھے کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو کچھ تم کرتے تھے۔

۲۹. پس اب تو ہمیشگی کے طور پر تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، پس کیا ہی برا ٹھکانا ہے غرور کرنے والوں کا۔

۳۰. اور پرہیزگاروں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل فرمایا ہے؟ تو جواب دیتے ہیں اچھے سے اچھا جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لئے اس دنیا میں بھلائی ہے، اور یقیناً آخرت کا گھر تو بہت ہی بہتر ہے، اور کیا ہی خوب پرہیزگاروں کا گھر ہے۔

۳۱. ہمیشگی والے باغات جہاں وہ جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جو کچھ طلب کریں گے وہاں ان کے لئے موجود ہوگا۔ پرہیزگاروں کو اللہ تعالیٰ اسی طرح بدلے عطا فرماتا ہے۔

۳۲. وہ جن کی جانیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہوں کہتے ہیں کہ تمہارے لئے سلامتی ہی سلامتی ہے، جاؤ جنت میں اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے تھے۔

۳۳. کیا یہ اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آجائیں یا تیرے رب کا حکم آجائے؟ ایسا ہی ان لوگوں نے بھی کیا تھا جو ان سے پہلے تھے، ان پر اللہ تعالیٰ نے کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔

۳۴. پس ان کے برے اعمال کے نتیجے انہیں مل گئے اور جس کی ہنسی اڑاتے تھے اس نے ان کو گھیر لیا

ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ

پھر دن قیامت کے وہ رسوا کرے گا ان کو اور کہے گا کہاں ہیں میرے شریک وہ لوگ

الْيَوْمِ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٢٧﴾ الَّذِينَ تَتَوَقَّعُهُمُ الْمَلَائِكَةُ

تھے تم جھگڑتے ان میں کہیں گے وہ لوگ جو دے گئے علم بیشک رسوائی

ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ فَأَلْقَوْا السَّلَامَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلَىٰ

آج کے دن اور برائی بر کافروں (پر) ہے ﴿٢٨﴾ الَّذِينَ تَتَوَقَّعُهُمُ الْمَلَائِكَةُ

روحیں قبض کرتے ہیں ان کی۔ فوت کرتے ہیں ان کو فرشتے

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٩﴾ فَأَدْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ

(اس حال میں کہ وہ ظلم کرتے والے ہوتے ہیں اپنے نفسوں پر تو ڈال دیے ہیں سیردگی۔ صلح ہیں) تمہیں ہم کرتے کوئی برائی کیوں نہیں

خَالِدِينَ فِيهَا فَلَيْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٣٠﴾ وَقِيلَ

بیشک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے تمہیں تمہیں عمل کرتے تمہیں عمل کرتے پس داخل ہو جاؤ دروازوں میں جہنم کے

لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي

ہمیشہ رہنے والے اس میں پس البتہ کتنا برائے ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کا اور بوجھا جاتا ہے

هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِيهَا أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٣١﴾

ان لوگوں سے جنہوں نے تقویٰ کیا کچھ اتارا تمہارے رب نے کہتے ہیں بہت اچھا ان لوگوں کے لئے جنہوں نے اچھا کیا میں

وَالَّذِينَ أَحْسَنُوا فِيهَا أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٣٢﴾

اس دنیا میں بھلائی ہے اور البتہ گھر آخرت کا بہتر ہے اور البتہ کتنا اچھا ہے متقین کا

وَالَّذِينَ أَحْسَنُوا فِيهَا أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

جنت عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُجْرَىٰ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

۱۶۲۰ باغات ہمیشہ کے وہ داخل ہوں گے ان میں بہتی ہوں گی سے ان کے نیچے نہیں

لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ ﴿٣٤﴾

ان کے لئے اس میں جو وہ چاہیں گے اسی طرح بدلہ دے گا اللہ تقویٰ والوں کو ۱۶۲۱

الَّذِينَ تَتَوَقَّعُهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ

وہ لوگ فوت کرتے ہیں ان کو فرشتے وہ پاک صاف ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں سلام ہے تم پر

أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٣٥﴾ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ

داخل ہو جاؤ جنت میں بوجھ اس کے جو تھے تم عمل کرتے نہیں ۱۶۲۲ وہ انتظار کر رہے مگر یہ کہ

تَأْتِيهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِي أَمْرٌ رَبِّكَ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنَ

آجائیں ان کے پاس فرشتے یا آجائے فیصلہ تیرے رب کا اسی طرح کیا ان لوگوں نے سے

جَهَنَّمَ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَٰكِن كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٣٦﴾

جان سے پہلے تھے اور نہیں ظلم کیا تھا ان پر اللہ نے لیکن تھے وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ۱۶۲۳

فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٣٧﴾

تو پہنچیں ان کو برائیاں جو انہوں نے عمل اور گھیر لیا ان کو جو تھے وہ اس کے مذاق اڑاتے ۱۶۲۴

۴۳. آپ سے پہلے بھی ہم مردوں کو ہی بھیجتے رہے، جن کی جانب وحی اتارا کرتے تھے پس اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے دریافت کرلو۔

۴۴. دلیلوں اور کتابوں کے ساتھ، یہ ذکر (کتاب) ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے کہ لوگوں کی جانب جو نازل فرمایا گیا ہے آپ اسے کھول کھول کر بیان کر دیں، شاید کہ وہ غور و فکر کریں۔

۴۵. بدترین داؤ پیچ کرنے والے کیا اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھنسا دے یا ان کے پاس ایسی جگہ سے عذاب آجائے جہاں کا انہیں وہم و گمان بھی نہ ہو۔

۴۶. یا انہیں چلتے پھرتے پکڑ لے، یہ کسی صورت میں اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے۔

۴۷. یا انہیں ڈرا دھمکا کر پکڑ لے، پس یقیناً تمہارا پروردگار اعلیٰ شفقت اور انتہائی رحم والا ہے۔

۴۸. کیا انہوں نے اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو بھی نہیں دیکھا؟ کہ اس کے سائے دائیں بائیں جھک جھک کر اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہوتے اور عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔

۴۹. یقیناً آسمان و زمین کے کل جاندار اور تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے کرتے ہیں اور ذرا بھی تکبر نہیں کرتے۔

۵۰. اور اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے، کپکپاتے رہتے ہیں اور جو حکم مل جائے اس کی تعمیل کرتے ہیں۔

۵۱. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما چکا ہے کہ دو معبود نہ بناؤ۔ معبود تو صرف وہی اکیلا ہے، پس تم سب میرا ہی ڈر خوف رکھو۔

۵۲. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے اور اسی کی عبادت لازم ہے، کیا پھر تم اس کے سوا اوروں سے ڈرتے ہو؟۔

۵۳. تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں سب اسی کی دی ہوئی ہیں، اب بھی جب تمہیں کوئی مصیبت پیش آجائے تو اسی کی طرف نالہ اور فریاد کرتے ہو۔

۵۴. اور جہاں اس نے وہ مصیبت تم سے دفع کر دی تم میں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَسَعَلُوا أَهْلَ

اور انہیں بھیجا ہم نے اب سے پہلے مگر مردوں کو ہم وحی کرتے ہیں ان کی طرف پس بوجھ لو اہل

الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْمَلُونَ ﴿٤٣﴾ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ

علم سے اگر ہوتے نہیں جانتے ۱۶:۴۳ ساتھ روشن نشانوں کے اور صحیفوں کے اور اتارا ہم نے آپ کی طرف

الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٤﴾

ذکر کو تاکہ آپ بیان کریں لوگوں کے لئے جو اتارا گیا ہے ان کی طرف اور تاکہ وہ غور و فکر کریں ۱۶:۴۴

أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ

کیا بے خوف ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے چالیں چلیں کہ دھنسا دے گا اللہ ان کو زمین میں

أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٤٥﴾ أَوْ يَأْخُذَهُمْ

یا آجائے گا ان کے پاس عذاب سے جہاں سے نہیں وہ شعور بھی نہ رکھتے ہوں گے ۱۶:۴۵ یا پکڑ لے گا ان کو

فِي تَقْلِبِهِمْ فَمَاهُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٤٦﴾ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ

میں ان کے چلتے پھرتے تو نہیں وہ عاجز کرنے والے ۱۶:۴۶ یا پکڑ لے گا ان کو کی خوف کی حالت میں تو بے

رَبِّكُمْ لَرُءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿٤٧﴾ أَوْ لَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ

رب تمہارا البتہ شفقت کرنے والا مہربان ہے ۱۶:۴۷ کیا بھلا وہ دیکھنے طرف جو اس کے جو اللہ نے کسی بھی چیز کو پیدا کیا

يَتَفَيَّؤُا ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ

کرتے ہیں اس کے سائے سے دائیں سے اور بائیں سے سجدہ کرتے ہوئے اللہ کے لئے اور وہ عاجزی کرنے والے ہیں

﴿٤٨﴾ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ

۱۶:۴۸ اور اللہ ہی سجدہ کر رہے ہیں جو میں آسمانوں اور جو میں زمین کوئی جاندار۔ کوئی جانور کے لئے

وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٤٩﴾ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ

اور فرشتے اور وہ نہیں اور وہ تکبر کرتے ۱۶:۴۹ وہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے

وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٥٠﴾ * وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ

اور وہ کرتے ہیں جو وہ حکم دینے جاتے ہیں ۱۶:۵۰ اور فرمایا نے اللہ تعالیٰ نے تم بناؤ دو الہ

أَشْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَوَحْدٌ فَإِلَىٰ فَا رَهْبُونَ ﴿٥١﴾ وَلَهُ وَمَا فِي السَّمَوَاتِ

دو بیشک وہ الہ ہے ایک پس صرف پس ڈرو مجھ سے ۱۶:۵۱ اور اس کے لئے ہے جو میں کچھ آسمانوں

وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصْبَاً أَفْغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ ﴿٥٢﴾ وَمَا بَكُرُ مِنْ

اور جو کچھ زمین میں ہے اور اسی اطاعت دائمی کیا بھلا سوائے اللہ کے تم ڈرتے ہو ۱۶:۵۲ اور جو بھی تمہارے کوئی

نِعْمَةٍ مِنْ اللَّهِ تَمَّ إِذَا مَسَّكُمْ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْعَرُونَ ﴿٥٣﴾ ثُمَّ إِذَا

نعمت ہے پس طرف اللہ کی بھر جب پہنچتی ہے تم کو تکلیف تو اسی کی طرف تم گر گزرتے ہو ۱۶:۵۳ بھر جب

كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿٥٤﴾

وہ بنا دینا ہے تکلیف کو تم سے یکا یک ایک گروہ تم میں سے اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں ۱۶:۵۴

۵۵. کہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کریں۔ اچھا کچھ فائدہ اٹھالو آخر کار تمہیں معلوم ہو ہی جائیگا

۵۶. اور جسے جانتے ہو جھٹے بھی نہیں اس کا حصہ ہماری دی ہوئی روزی میں سے مقرر کرتے ہیں، واللہ تمہارے اس بہتان کا سوال تم سے ضرور کیا جائے گا۔

۵۷. اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لئے لڑکیاں مقرر کرتے ہیں اور اپنے لئے وہ جو اپنی خواہش کے مطابق ہو

۵۸. ان میں سے جب کسی کو لڑکی ہونے کی خوش خبر دی جائے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور دل ہی دل میں گھٹنے لگتا ہے

۵۹. اس بری خبر کی وجہ سے لوگوں سے چھپا چھپا پھرتا ہے۔ سوچتا ہے کہ کیا اس کو ذلت کے ساتھ لئے ہوئے ہی رہے یا اسے مٹی میں دبا دے، آہ! کیا ہی برے فیصلے کرتے ہیں؟

۶۰. آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کی ہی بری مثال ہے، اللہ کے لئے تو بہت ہی بلند صفت ہے، وہ بڑا ہی غالب اور با حکمت ہے۔ اگر لوگوں کے گناہ پر اللہ تعالیٰ ان کی گرفت کرتا تو روئے زمین پر ایک بھی جاندار باقی نہ رہتا لیکن وہ تو انہیں ایک وقت مقرر تک ڈھیل دیتا ہے، جب ان کا وہ وقت آجاتا ہے تو وہ ایک ساعت نہ پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔

۶۱. اور وہ اپنے لئے جو ناپسند رکھتے ہیں اللہ کے لئے ثابت کرتے ہیں اور ان کی زبانیں جھوٹی باتیں بیان کرتی ہیں کہ ان کے لئے خوبی ہے نہیں نہیں، دراصل ان کے لئے آگ ہے اور یہ دوزخیوں کے پیش رو ہیں۔

۶۲. واللہ! ہم نے تجھ سے پہلے کی امتوں کی طرف بھی اپنے رسول بھیجے لیکن شیطان نے ان کے اعمال بد ان کی نگاہوں میں آراستہ کر دیئے وہ شیطان آج بھی ان کا رفیق بنا ہوا ہے اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے۔

۶۳. اس کتاب کو ہم نے آپ پر اس لئے اتارا ہے کہ آپ ان کے لئے ہر اس چیز کو واضح کر دیں جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں اور یہ ایمان داروں کے لئے راہنمائی اور رحمت ہے۔

لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٥٥﴾ وَيَجْعَلُونَ

ناکہ وہ ناشکری کریں اس کی جو ہم نے ان کو دیا ہے پس فائدے اٹھالو پس عنقریب تم جان لو گے ۱۲:۵۵ اور وہ مقرر کرتے ہیں۔ بناتے ہیں

لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ

وہ جاننے ایک حصہ اس میں رزق دیا ہم نے ان کو اللہ کی قسم البتہ تم ضرور اس کے بارے تمہیں اس کے نہیں جو

تَفْتَرُونَ ﴿٥٦﴾ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ

تم گھڑتے ۱۲:۵۶ اور وہ بناتے ہیں اللہ کے لئے بنیاں پاک ہے وہ اور ان کے لئے وہ ہے جو وہ خواہش رکھیں

وَإِذَا بَشِّرْ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهَهُ وَمُسُودًا ۖ وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٥٨﴾

۱۲:۵۷ اور جب خوشخبری ان میں سے لڑکی کی بوجاتا ہے اس کا چہرہ سیاہ اور وہ غم کے کیونٹ پیتا ہے ۱۲:۵۸

يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ

چھپتا ہے سے لوگوں سے برائی سے جو وہ خوشخبری ساتھ کیا لئے رکھے اس کو۔ کے ذلت کے ساتھ چھپتا ہے

أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٥٩﴾ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ

یا دبا دے اس کو میں منی میں خبردار کتنا برا ہے جو وہ فیصلہ کر رہے ہیں ۱۲:۵۹ ان لوگوں کے لئے نہیں جو ایمان لاتے

بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ ۗ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

آخرت پر مثال ہے بری اور اللہ کے لئے مثال ہے اعلیٰ اور وہ زبردست حکمت والا ہے

ۖ وَلَوْ يُوَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ

۱۲:۶۰ اور اگر بکڑے اللہ (مواخذہ لوگوں کو۔ ان کے ظلم کی وجہ سے نہ چھوڑے اس پر کوئی جاندار۔ کوئی جانور

ۖ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ فَاِذَا جَاءَ أَجْلَهُمْ لَا يَسْتَعْجِرُونَ

لیکن وہ مہلت دے تک ایک وقت مقرر تک پھر جب آجائے گا ان کا وقت مقرر نہ تاخیر کر سکیں گے

سَاعَةً ۚ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿٦١﴾ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُّ

ایک گھڑی اور نہ آگے بڑھ سکیں گے ۱۲:۶۱ اور وہ مقرر کرتے ہیں اللہ کے لئے وہ جو انہیں ناپسند ہے اور بیان کرتی ہیں

الَّذِينَ يَكْفُرُونَ ۖ أَلَمْ يَكْفُرُوا بِالْحَسَنِ الَّذِي رَزَقَهُم مِّنَّا لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ

ان کی زبانیں جھوٹ بیشک ان کے لئے بھلائی ہے نہیں شک بیشک ان کے لئے آگ ہے

ۖ وَأَنَّهُمْ مُّفْرَطُونَ ﴿٦٢﴾ تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ

اور بیشک وہ سب سے آگے پہنچائے جانے والے ہیں ۱۲:۶۲ قسم ہے اللہ کی البتہ تحقیق (رسولوں کو) بھیجا ہم نے طرف قوموں کے کچھ سے آپ سے پہلے

فَزَيْنٌ لَّهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ فَهُوَ وِلِيُّهُمْ ۗ الْيَوْمَ وَلَهُمْ

تو خوبصورت ان کو شیطان نے ان کے اعمال کو پس وہی سرپرست ہے ان کا آج اور ان کے لئے

عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٣﴾ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ

عذاب ہے دردناک ۱۲:۶۳ اور نہیں اتارا ہم نے آپ پر کتاب کو مگر تاکہ آپ ان کے لئے

الَّذِي اٰخْتَلَفُوْا فِيْهِ وَهَدٰى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُوْنَ ﴿٦٤﴾

وہ چیز انہوں نے اختلاف کیا جس میں اور ہدایت اور رحمت اس قوم کے لئے جو ایمان رکھتی ہو ۱۲:۶۴

۶۵. اور اللہ آسمان سے پانی برسائے اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لئے نشانی ہے جو سنیں۔

۶۶. تمہارے لئے تو چوپایوں میں بھی بڑی عبرت ہے کہ ہم تمہیں اس کے پیٹ میں جو کچھ ہے اسی میں سے گوہر اور لہو کے درمیان سے خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لئے سہتا پچتا ہے۔

۶۷. اور کھجور اور انگور کے درختوں کے پھلوں سے تم شراب بنا لیتے ہو اور عمدہ روزی بھی۔ جو لوگ عقل رکھتے ہیں ان کے لئے تو اس میں بہت بڑی نشانی ہے۔

۶۸. آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ پہاڑوں میں درختوں اور لوگوں کی بنائی ہوئی اونچی اونچی ٹٹیوں میں اپنے گھر (چھتے) بنا۔

۶۹. اور ہر طرح کے میوے کہا اور اپنے رب کی آسان راہوں میں چلتی پھرتی رہ، ان کے پیٹ سے رنگ برنگ کا مشروب نکلتا ہے، جس کے رنگ مختلف ہیں اور جس میں لوگوں کے لئے شفا ہے غور و فکر کرنے والوں کے لئے اس میں بہت بڑی نشانی ہے۔

۷۰. اللہ تعالیٰ ہی نے تم سب کو پیدا کیا وہی پھر تمہیں فوت کرے گا، تم میں ایسے بھی ہیں جو بدترین عمر کی طرف لوٹائے جاتے ہیں کہ بہت کچھ جانتے بوجھنے کے بعد بھی نہ جانیں، بیشک اللہ دانا اور توانا ہے۔

۷۱. اللہ تعالیٰ ہی نے تم سے ایک کو دوسرے پر روزی میں زیادتی دے رکھی ہے، پس جنہیں زیادتی دی گئی ہے وہ اپنی روزی اپنے ما تحت غلاموں کو نہیں دیتے کہ وہ اور یہ اس میں برابر ہو جائیں، تو کیا یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کے منکر ہو رہے ہیں۔

۷۲. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے تم میں سے ہی تمہاری بیویاں پیدا کیں اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لئے بیٹے اور پوتے پیدا کئے اور تمہیں اچھی اچھی چیزیں کھانے کو دیں۔ کیا پھر بھی لوگ باطل پر ایمان لائیں گے؟ اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کریں گے۔

وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿٦٥﴾

اور اللہ نے اتارا سے آسمان (سے) پانی پھر زندہ کر دیا اس کے زمین کو بعد کے۔ اس کے مرنے میں موت کے بعد۔ بیشک میں اس (میں) نشانی ہے اس قوم کے لئے۔

وَمِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبْنَاخًا لِصَاسِغًا لِلشَّرِبِينَ ﴿٦٦﴾

اس میں سے ان کے پیٹوں کے درمیان گوہر کے اور خون کے دودھ خالص خوش گوار پینے والوں کے لئے۔

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ

اجھا بیشک میں اس (میں) نشانی ہے اس قوم کے لئے۔ جو عقل رکھتی ہو اور وحی کی طرف شہد کی مکھی کی طرف (کی طرف)۔

أَنْ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿٦٨﴾ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا

کہ بنائے سے پہاڑوں گھر اور سے درخت (میں سے) اور اس میں وہ جڑھائے ہیں اور ۱۶:۶۸ پھر کھا سے ہر قسم پھلوں میں سے پھر چلتی رہ رہ راستوں پر اپنے رب کے ہموار۔ آسان نکلتا ہے سے ان کے پیٹوں سے

شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٩﴾ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ

جو غور و فکر کرتی ہو اور اللہ نے پیدا کیا تم کو پھر وہ فوت کرتا ہے تم کو اور تم میں سے کوئی پھیرا جاتا ہے طرف

أَرْضٍ لِّلْعُمُرِ لَكُمْ لَّا يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿٧٠﴾

حقیر تر عمر کی تاکہ نہ جانے بعد علم کے کچھ بھی بیشک اللہ علم والا ہے قدرت والا ہے اور ۱۶:۷۰

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ

اور اللہ تعالیٰ اس نے فضیلت دی تم میں سے بعض کو پر بعض میں رزق (میں) تو نہیں وہ لوگ جو فضیلت پھرنے والے۔ اپنا رزق اوپر ان کے جن کے مالک ہیں ان کے دائیں ہاتھ تو وہ اس میں برابر ہوں کیا بھلا نعمت کا

اللَّهُ يَجْحَدُونَ ﴿٧١﴾ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

اللہ کی وہ انکار کرتے ہیں اور اللہ اس نے بنائیں تمہارے لئے سے تمہارے نفسوں سے بیویاں اور بنائے تمہارے لئے سے تمہاری بیویوں میں سے بیٹے اور پوتے اور اس نے رزق دیا تم کو سے

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَوَاتِ

اور وہ عبادت کرتے ہیں کے سوا اللہ کے اس کی نہیں مالک ہوتا ان کے لئے رزق کا سے آسمانوں

وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٧٣﴾ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ

اور زمین سے کسی چیز کا اور نہ ہی وہ استطاعت رکھتے ہیں ۱۶:۷۳ پس نہ تم بیان کرو اللہ کے لئے مثالیں

إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٧٤﴾ * ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا

بیشک اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ۱۶:۷۴ بیان کی اللہ نے ایک مثال ایک غلام کی

مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِثْرًا زَقًّا حَسَنًا

مملوک نہیں قدرت رکھتا اوپر کسی چیز کے اور اس کی جس کو رزق اپنی طرف رزق اجھا دیا ہم سے

فَهُوَ يَنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ

تو وہ خرچ کرتا ہے اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ۔ کھلے کیا وہ برابر ہوسکتے ہیں سب تعریف اللہ کے لئے ہے

بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ

بلکہ اکثر ان میں سے نہیں علم رکھتے ۱۶:۷۵ اور بیان کی اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دو آدمیوں کی

أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ

ان دونوں میں سے ایک گونگا ہے نہیں قدرت رکھتا پر کسی چیز پر اور وہ بوجھ ہے پر اپنے آقا پر

أَيْنَمَا يُوَجِّهُهُ لآيَاتٍ بَخِيرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ

جہاں کہیں وہ بھیجتا ہے اس کو نہیں لاتا کوئی بھلائی کیا برابر ہوسکتا ہے وہ اور وہ جو حکم دیتا ہے

بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٧٦﴾ وَلِلَّهِ غَيْبُ

انصاف کا اور وہ پر راستے پر سیدھے ۱۶:۷۶ اور اللہ ہی غیب کے لئے ہے

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ

آسمانوں کا اور زمین کا اور نہیں معاملہ قیامت کا مگر مانند جھپکنے

الْبَصْرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٧٧﴾

نگاہ کے یا وہ زیادہ قریب ہے بیشک اللہ تعالیٰ پر ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے ۱۶:۷۷

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا

اور اللہ تعالیٰ اس نے نکالا تم کو سے بیٹوں تمہاری ماؤں کے نہیں تم جانتے تھے کچھ بھی

وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ

اور اس نے بنائے تمہارے لئے کان اور آنکھیں اور دل تاکہ تم

تَشْكُرُونَ ﴿٧٨﴾ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ

شکر گزار بنو ۱۶:۷۸ کیا نہیں انہوں نے دیکھا طرف پرندوں کے مسخر کیے گئے ہیں میں فضا میں آسمان کی

مَا يَمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٧٩﴾

نہیں تھامے ہوئے ان کو مگر اللہ بیشک میں اس میں البتہ نشانیاں ہیں کے لئے ایک قوم جو ایمان لاتی ہو ۱۶:۷۹

۷۳. اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو آسمانوں اور زمین سے انہیں کچھ بھی تو روزی نہیں دے سکتے اور نہ قدرت رکھتے ہیں۔

۷۴. پس اللہ تعالیٰ کے لئے مثالیں مت بناؤ، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔

۷۵. اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کرتا ہے کہ ایک غلام ہے دوسرے کی ملکیت کا، جو کسی بات کا اختیار نہیں رکھتا اور ایک اور شخص ہے جسے ہم نے اپنے پاس سے معقول روزی دے رکھی ہے، جس میں سے چھپے کھلے خرچ کرتا ہے۔ کیا یہ سب برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہی کے لئے سب تعریف ہے، بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔

۷۶. اللہ تعالیٰ ایک اور مثال بیان فرماتا ہے دو شخصوں کی، جن میں سے ایک تو گونگا ہے اور کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتا بلکہ وہ اپنے مالک پر بوجھ ہے کہیں بھی اسے بھیج دو کوئی بھلائی نہیں لاتا، کیا یہ اور وہ جو عدل کا حکم دیتا ہے اور ہے بھی سیدھی راہ پر، برابر ہو سکتے ہیں؟

۷۷. آسمانوں اور زمین کا غیب صرف اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے اور قیامت کا امر تو ایسا ہی ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب۔ بیشک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔

۷۸. اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے بیٹوں سے نکالا ہے کہ اس وقت تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اسی نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے کہ تم شکر گزاری کرو۔

۷۹. کیا ان لوگوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا جو تابع فرمان ہو کر فضا میں ہیں، جنہیں بجز اللہ تعالیٰ کے کوئی اور تھامے ہوئے نہیں، بیشک اس میں ایمان لانے والے لوگوں کیلئے بڑی نشانیاں ہیں۔

۸۰. اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے گھروں میں سکونت کی جگہ بنا دی ہے اور اسی نے تمہارے لئے چوپایوں کی کھالوں کے گھر بنا دئے ہیں، جنہیں تم ہلکا پھلکا پاتے ہو اپنے کوچ کے دن اور اپنے ٹھہرنے کے دن بھی، اور ان کی اون اور روؤں اور بالوں سے بھی اس نے بہت سے سامان اور ایک وقت مقررہ تک کے لئے فائدہ کی چیزیں بنائیں۔

۸۱. اللہ ہی نے تمہارے لئے اپنی پیدا کردہ چیزوں میں سے سائے بنائے ہیں اور اسی نے تمہارے لئے پہاڑوں میں غار بنائے ہیں اور اسی نے تمہارے لئے کرتے بنائے ہیں جو تمہیں گرمی سے بچائیں اور ایسے کرتے بھی جو تمہیں لڑائی کے وقت کام آئیں، وہ اس طرح اپنی پوری پوری نعمتیں دے رہا ہے کہ تم حکم بردار بن جاؤ۔

۸۲. پھر بھی اگر یہ منہ موڑے رہیں تو آپ پر صرف کھول کر تبلیغ کر دینا ہی ہے۔

۸۳. یہ اللہ کی نعمتیں جانتے پہچانتے ہوئے بھی ان کے منکر ہو رہے ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر ناشکرے ہیں

۸۴. اور جس دن ہم ہر امت میں سے گواہ کھڑا کریں گے پھر کافروں کو نہ اجازت دی جائے گی اور نہ ان سے توبہ کرنے کو کہا جائے گا۔

۸۵. اور جب یہ ظالم عذاب دیکھ لیں گے پھر نہ تو ان سے ہلکا کیا جائے گا اور نہ وہ ڈھیل دئے جائیں گے۔

۸۶. جب مشرکین اپنے شریکوں کو دیکھ لیں گے تو کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار! یہی وہ ہمارے شریک ہیں جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے، پس وہ انہیں جواب دیں گے کہ تم بالکل ہی جھوٹے ہو

۸۷. اس دن وہ سب (عاجز ہو کر) اللہ کے سامنے اطاعت کا اقرار پیش کریں گے اور جو بہتان بازی کیا کرتے تھے وہ سب ان سے گم ہو جائے گی۔

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ جُلُودِ

اور اللہ نے بنائے تمہارے لئے سے تمہارے گھروں سے سکونت کی جگہ اور بنائے تمہارے لئے سے کھالوں

الْاَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ اِقَامَتِكُمْ

موشیوں کی گھر تم ہلکا پاتے ہو ان کو دن اپنے سفر کے اور دن اور اپنی اقامت کے

وَمِنْ اَصْوَابِهَا وَاَوْبَارِهَا وَاَشْعَارِهَا اَثَثَا وَمَتَاعًا اِلَى حِينٍ

اور سے ان کی اون اور ان کی ہشام اور ان کے بالوں سے سامان اور فائدے تک اور ایک وقت تک

۸۰ وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ

۱۶۸۰ اور اللہ نے بنائے تمہارے لئے اس میں اس نے پیدا کئے سائے اور بنائے تمہارے لئے سے

الْجِبَالِ اَكْنَافًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِلَ تَقِيْكُمْ

پہاڑوں میں چھینے کی جگہیں اور بنائے تمہارے لئے کرتے بجاتے ہیں تم کو

الْحَرِّ وَسَرَابِلَ تَقِيْكُمْ بِاَسْكُمُ كَذٰلِكَ يُتَمُّ نِعْمَتُهُ

گرمی سے اور کرتے بجاتے ہیں تم کو تمہاری جنگ سے اسی طرح وہ پورا کرتا ہے اپنی نعمت کو

عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْلُمُونَ ۸۱ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْكَ

تم پر تاکہ تم تم سب سے کر دو۔ ۱۶۸۱ پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں تو بیشک آپ پر

الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ۸۲ يَعْرِفُوْنَ نِعْمَتَ اللّٰهِ ثُمَّ يُنْكِرُوْنَهَا

پہچانا ہے صاف صاف ۱۶۸۲ وہ پہچانتے ہیں نعمت کو اللہ کی پھر وہ انکار کرتے ہیں اس کا

وَاَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ ۸۳ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ

اور اکثر ان میں سے کافر ہیں۔ ناشکرے ہیں۔ ۱۶۸۳ اور جس دن ہم انہیں گے سے ہر امت انکار کرنے والے ہیں

شٰهِيْدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ

ایک گواہ پھر نہ اجازت دی جائے گی ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا اور نہ وہ عذر قبول کئے جائیں گے

۸۴ وَاِذَا رَاَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا الْعٰذَابَ فَلَا يُخَفِّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ

۱۶۸۴ اور جب دیکھیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا عذاب کو تو نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے اور نہ وہ

يُنظَرُوْنَ ۸۵ وَاِذَا رَاَ الَّذِيْنَ اٰشْرَكُوْا شُرَكَآءَهُمْ قَالُوْا

مہلت دئے جائیں گے ۱۶۸۵ اور جب دیکھیں وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا اپنے شریکوں کو کہیں گے

رَبَّنَا هٰؤُلَآءِ شُرَكَآؤُنَا الَّذِيْنَ كُنَّا نَدْعُوْا مِنْ دُوْنِكَ

اے ہمارے رب یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے شریک ہیں وہ جو تمہیں دعا کرتے تھے سو

فَالْقَوٰى اِيَّاهُمْ الْقَوْلُ اِنَّكُمْ لَكٰذِبُوْنَ ۸۶ وَالْقَوٰى اِلٰى

تو وہ ڈالیں گے ان کی طرف بات کو بیشک تم البتہ جھوٹے ہو ۱۶۸۶ اور وہ ڈالیں گے طرف

اللّٰهِ يَوْمَ يَذِ السَّلْمِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ۸۷

اللہ کی اس دن صلح اور گم ہو جائیں گے ان سے جو تھے وہ گھڑتے ۱۶۸۷

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا

وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکا سے راستے سے اللہ کے زیادہ دیں گے عذاب

فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ ﴿٨٨﴾ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي

اوپر عذاب کے بوجہ اس سے وہ فساد کرتے ۱۶۸۸ اور جس دن ہم انہائیں گے میں

كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ

ہر امت میں ایک گواہ ان پر سے انہی میں اور ہم لائیں گے آپ کو

شَهِيدًا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ

گواہ کے طور پر ہر ان لوگوں پر اور نازل کی ہم نے آپ پر کتاب کھول کر بیان بر کے لئے

شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿٨٩﴾ إِنَّ اللَّهَ

چیز کے اور ہدایت اور رحمت اور خوشخبری اور خوشخبری مسلمانوں کے لئے ۱۶۸۹ بیشک اللہ تعالیٰ

يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ

حکم دینا ہے انصاف کا۔ عدل کا اور احسان کا اور دینے کا والے قربت (رشتہ داروں کو) اور روکتا ہے۔ سے منع کرتا ہے

الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

بے حیائی سے اور برائی سے اور زیادتی سے وہ نصیحت کرتا ہے تم کو تاکہ تم نصیحت پکڑو

﴿٩٠﴾ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ

۱۶۹۰ اور پورا کرو عہد کو اللہ کے جب عہد کرو تم اور نہ تم توڑو قسموں کو

بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ

بعد ان کو پکا کرنے کے حالانکہ بنالیا تم نے اللہ کو اپنے اوپر ضامن۔ ذمہ دار بیشک

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي نَقَضَتْ

اللہ تعالیٰ وہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو ۱۶۹۱ اور نہ تم ہو جاؤ اس عورت کی طرح جس نے توڑ ڈالا

غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثَاتٍ تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا

اپنا سوت بعد پکا کرتے۔ تکرے تکرے کرنا۔ تم بنا لیتے ہو اپنی قسموں کو بہانہ

بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ

آپس میں کہ ہو ایک امت۔ وہ زیادہ فائدہ بڑھی ہوئی۔ سے دوسرے زیادہ فائدہ والی

بِهِ وَلِيَبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

اس کے اور البتہ ضرور بیان کرے گا تمہارے لئے دن قیامت کے جو تمہارے تمہیں اس میں تم اختلاف کرتے

﴿٩٢﴾ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن يُضِلُّ مَنْ

۱۶۹۲ اور اگر چاہتا اللہ البتہ بنا دیتا تم کو ایک لیکن وہ گمراہ کرتا ہے جس کو

يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَسْتَ لَنْ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾

چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور البتہ تم ضرور اس چیز کے بارے میں جو تمہیں تمہیں

۸۸. جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا ہم انہیں عذاب پر عذاب بڑھاتے جائیں گے، یہ بدلہ ہوگا ان کی فتنہ پردازیوں کا۔ ۸۹. اور جس دن ہم ہر امت میں انہی میں سے ان کے مقابلے پر گواہ کھڑا کریں گے اور تجھے ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے، اور ہم نے تجھ پر یہ کتاب نازل فرمائی ہے جس میں ہر چیز کا شافی بیان ہے اور ہدایت اور رحمت اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لئے۔ ۹۰. اللہ تعالیٰ عدل کا، بہلائی کا اور قربت داروں کے ساتھ سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی کے کاموں، ناشائستہ حرکتوں اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے، وہ خود تمہیں نصیحتیں کر رہا ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو۔

۹۱. اور اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو جب کہ تم آپس میں قول و قرار کرو اور قسموں کو ان کی پختگی کے بعد مت توڑو، حالانکہ تم اللہ تعالیٰ کو اپنا ضامن ٹھہرا چکے ہو، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس کو بخوبی جان رہا ہے۔

۹۲. اور اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سوت مضبوط کاتنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ ڈالا، کہ تم اپنی قسموں کو آپس کے مکر کا باعث ٹھہراؤ، اس لئے کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے بڑھا چڑھا ہو جائے بات صرف یہی ہے کہ اس عہد سے اللہ تمہیں آزما رہا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے لئے قیامت کے دن ہر اس چیز کو کھول کر بیان کر دے گا جس میں تم اختلاف کر رہے تھے۔

۹۳. اگر اللہ چاہتا تم سب کو ایک ہی گروہ بنا دیتا لیکن وہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، یقیناً تم جو کچھ کر رہے ہو اس کے بارے میں باز پرس کی جانے والی ہے۔

۹۴. اور تم اپنی قسموں کو آپس کی دغا بازی

کا بہانہ نہ بناؤ۔ پھر تمہارے قدم اپنی

مضبوطی کے بعد ڈگمگا جائیں گے اور تمہیں

سخت سزا برداشت کرنا پڑے گی کیونکہ تم

نے اللہ کی راہ سے روک دیا اور تمہیں سخت

عذاب ہوگا

۹۵. تم اللہ کے عہد کو تھوڑے مول کے

بدلے نہ بیچ دیا کرو۔ یاد رکھو اللہ کے پاس

کی چیز ہی تمہارے لئے بہتر ہے بشرطیکہ

تم میں علم ہو۔

۹۶. تمہارے پاس جو کچھ ہے سب فانی ہے

اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے باقی ہے۔

اور صبر کرنے والوں کو ہم بھلے اعمال کا

بہترین بدلہ ضرور عطا فرمائیں گے۔

۹۷. جو شخص نیک عمل کرے مرد ہو یا

عورت، لیکن با ایمان ہو تو ہم یقیناً نہایت

بہتر زندگی عطا فرمائیں گے اور ان کے نیک

اعمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور ضرور

دیں گے۔

۹۸. قرآن پڑھنے کے وقت راندے ہوئے شیطان

سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔

۹۹. ایمان والوں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ

رکھنے والوں پر زور مطلقاً نہیں چلتا۔

۱۰۰. ہاں اس کا غلبہ ان پر تو یقیناً ہے جو

اسی سے رفاقت کریں اور اسے اللہ کا شریک

ٹھہرائیں۔

۱۰۱. جب ہم کسی آیت کی جگہ دوسری

آیت بدل دیتے ہیں اور جو کچھ اللہ تعالیٰ

نازل فرماتا ہے اسے وہ خوب جانتا ہے تو یہ

کہتے ہیں کہ تو تو بہتان باز ہے۔ بات یہ

ہے کہ ان میں سے اکثر جانتے ہی نہیں۔

۱۰۲. کہہ دیجئے کہ اسے آپ کے رب کی طرف

سے جبرائیل حق کے ساتھ لے کر آئے ہیں،

تاکہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ استقلال عطا

فرمائے اور مسلمانوں کی رہنمائی اور بشارت

ہو جائے۔

وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخْلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ

اور نہ تم بناؤ اپنی قسموں کو بہانہ۔ دخل دیے والے آپس میں ورنہ پھسل جائے گا قدم بعد

ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ

اس کے ثبوت اور تم چکھو گے برانجیہ اس کے سبب سے روکا تم نے سے راستے (سے) اللہ کے اور تمہارے لئے

عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٩٤﴾ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا

عذاب ہے بڑا ۱۶:۹۴ اور نہ تم بیجو عہد کو اللہ کے عوض قیمت کے تھوڑی بیشک جو

عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩٥﴾ مَا عِنْدَكُمْ

پاس ہے اللہ کے وہ بہتر ہے تمہارے لئے اگر ہو تم تم جاننے ۱۶:۹۵ جو تمہارے پاس ہے

يَنفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ

ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے باقی رہنے اور البتہ ہم ضرور جزا دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا ان کا اجر

بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا

سب سے بہتر جو تھے وہ عمل کرتے ۱۶:۹۶ جس نے عمل کیا اچھا

مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً

خواہ کوئی مرد ہو یا عورت ہو اور وہ مومن ہو پس اللہ ہم ضرور زندگی دیں گے اس کو زندگی پاکیزہ

وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

اور البتہ ہم ضرور جزا دیں گے ان کو سب سے بہتر ان کا اجر ان کے ساتھ بہترین کے ساتھ ۱۶:۹۷

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

پھر جب پڑھو قرآن کو تو پناہ مانگو اللہ کی سے شیطان مردود

﴿٩٨﴾ إِنَّهُ وَلِيُّ لَّهُ وَسُلْطٰنٌ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ

۱۶:۹۸ بیشک وہ نہیں اس کے کوئی زور ہے ان لوگوں جو ایمان لائے اور ہر اپنے رب پر

يَتَوَكَّلُونَ ﴿٩٩﴾ إِنَّمَا سُلْطٰنُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ

وہ توکل کرتے ہیں ۱۶:۹۹ بیشک اس کا زور ہے ان لوگوں پر ہے جو دوستی کرتے ہیں اس سے اور وہ لوگ

هُم بِهِ مُشْرِكُونَ ﴿١٠٠﴾ وَإِذَا بَدَلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ

وہ اس کے ساتھ شریک کرنے والے ہیں ۱۶:۱۰۰ اور جب بدل دیتے ہیں ہم ایک آیت کو جگہ پر دوسری آیت کی

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنزِلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ

اور اللہ خوب جانتا ہے کہ جو وہ اتارتا ہے وہ کہتے ہیں بیشک تو گھڑنے والا ہے بلکہ اکثر ان میں سے

لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ

نہیں جانتے ۱۶:۱۰۱ کہہ دیجئے کہ نازل کیا ہے روح پاک نے سے تیرے رب کی طرف حق کے ساتھ

لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿١٠٢﴾

تاکہ پکا کرے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور ہدایت ہے اور خوشخبری مسلمانوں کے لئے ۱۶:۱۰۲

۱۰۳. ہمیں بخوبی علم ہے کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ اسے تو ایک آدمی سکھاتا ہے اس کی زبان جس کی طرف یہ نسبت کر رہے ہیں عجمی ہے اور یہ قرآن تو صاف عربی زبان میں ہے۔

۱۰۴. جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے انہیں اللہ کی طرف سے بھی رہنمائی نہیں ہوتی اور ان کے لئے دردناک عذاب ہیں۔

۱۰۵. جھوٹ افترا تو وہی باندھتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان نہیں ہوتا۔ یہی لوگ جھوٹے ہیں۔

۱۰۶. جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ سے کفر کرے بجز اس کے جس پر جبر کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر برقرار ہو، مگر جو لوگ کھلے دل سے کفر کریں تو ان پر اللہ کا غضب ہے اور انہی کے لئے بہت بڑا عذاب ہے۔

۱۰۷. یہ اس لئے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت سے زیادہ محبوب رکھا یقیناً اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو راہ راست نہیں دکھاتا۔

۱۰۸. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اور جن کے کانوں اور جن کی آنکھوں پر مہر لگا دی ہے اور یہی لوگ غافل ہیں۔

۱۰۹. کچھ شک نہیں کہ یہی لوگ آخرت میں سخت نقصان اٹھانے والے ہیں۔

۱۱۰. جن لوگوں نے فتنوں میں ڈالے جانے کے بعد ہجرت کی پھر جہاد کیا اور صبر کا ثبوت دیا بیشک تیرا پروردگار ان باتوں کے بعد انہیں بخشنے والا اور مہربانیاں کرنے

والا ہے۔

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ

اور البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں بیشک وہ کہتے ہیں بیشک اس کے بھائی نے اس کو سکھاتا ہے اس کو ایک انسان زبان

الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ

اس شخص کی وہ غلط اشارہ کرتے ہیں اس کی طرف عجمی ہے اور یہ زبان ہے عربی مبین کی۔ صاف عربی کی

۱۰۳. إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ

۱۱۰:۲ بیشک وہ لوگ نہیں جو ایمان لائے آیات کے ساتھ اللہ کی نہیں ہدایت دے گا ان کو اللہ

وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۱۰۴. إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ

اور ان کے لئے ہے عذاب دردناک ۱۱۰:۴ بیشک گھڑ لیتے ہیں جھوٹ کو وہ لوگ

لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ ۱۰۵.

نہیں جو ایمان لائے ساتھ آیات کے اللہ کی اور یہی لوگ وہ جھوٹے ہیں ۱۱۰:۵

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَن شَرَحَ بِالْكُفْرِ

جس نے کفر کیا اللہ کا بعد اپنے ایمان کے سوائے اس کے مجبور کیا گیا اور دل اس کا مطمئن ہو ایمان پر لیکن جو کھول دے کفر کے ساتھ

صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

سینے کو تو ان پر غضب ہے سے اللہ اور ان کے لئے ہے عذاب بڑا

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى

۱۱۰:۶ یہ بوجہ اس کے کہ بیشک وہ انہوں نے ترجیح دی زندگی کو جو دنیا کی ہے پر

الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

آخرت پر اور بیشک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا قوم کو جو کافر ہیں

۱۰۷. أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمَعِهِمْ

۱۱۰:۷ یہی وہ لوگ ہیں مہر لگا دی اللہ نے اوپر ان کے دلوں کے اور ان کے کانوں کے

وَأَبْصَرِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ۱۰۸. لَّا جَرَمَ

اور ان کی آنکھوں کے اور یہی لوگ وہ جو غافل ہیں ۱۱۰:۸ کوئی شک

أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَسِرُونَ ۱۰۹. ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ

بیشک وہ میں آخرت وہی ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں ۱۱۰:۹ پھر بیشک رب تیرا

لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنَّا بَعْدَ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا

ان لوگوں کے لئے جنہوں نے ہجرت کی سے بعد (اس کے وہ آزمائش میں ڈالے گئے) پھر انہوں نے جہاد کے

وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنَ الْغَفُورِ رَحِيمٌ ۱۱۰.

اور صبر کے بیشک تیرا رب رحیم ہے ۱۱۰:۱۰

۲۷۹

۱۱۱. جس دن ہر شخص اپنی ذات کے لئے لڑتا جھگڑتا آئے اور ہر شخص کو اس کے کئے ہوئے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور لوگوں پر (مطلقاً) ظلم نہ کیا جائے گا۔

۱۱۲. اللہ تعالیٰ اس بستی کی مثال بیان فرماتا ہے جو پورے امن و اطمینان سے تھی اس کی روزی اس کے پاس با فراغت ہر جگہ سے چلی آرہی تھی۔ پھر اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کفر کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھوک اور ڈر کا مزہ چکھایا جو بدلہ تھا ان کے کرتوتوں کا۔

۱۱۳. ان کے پاس انہی میں سے رسول پہنچا پھر بھی انہوں نے اسے جھٹلایا پس انہیں عذاب نے آدبوجا اور وہ تھے ہی ظالم۔

۱۱۴. جو کچھ حلال اور پاکیزہ روزی اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے اسے کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔

۱۱۵. تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور جس چیز پر اللہ کے سوا دوسرے کا نام پکارا جائے حرام ہیں۔ پھر اگر کوئی بے بس کر دیا جائے نہ وہ خواہشمند ہو اور نہ حد سے گزر جانے والا ہو تو یقیناً اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔

۱۱۶. کسی چیز کو اپنی زبان سے جھوٹ موٹ نہ کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے کہ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھ لو، سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ پر بہتان بازی کرنے والے کامیابی سے محروم ہی رہتے ہیں۔

۱۱۷. انہیں بہت معمولی فائدہ ملتا ہے اور ان کے لئے ہی دردناک عذاب ہے۔

۱۱۸. اور یہودیوں پر جو کچھ ہم نے حرام کیا تھا اسے ہم پہلے ہی سے آپ کو سنا چکے ہیں، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔

* يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوْفَىٰ كُلُّ

جس دن آئے گا ہر شخص جھگڑتے ہوئے کے اپنے نفس کے بارے میں اور پورا پورا دیا جائے گا ہر

نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١١١﴾ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا

شخص کو جو اس نے عمل کیا اور وہ نہ ظلم کئے جائیں گے ۱۱۱ اور بیان کی اللہ نے ایک مثال

قَرْيَةٍ كَانَتْ ءَامِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن

ایک بستی کی وہ تھی امن والی۔ محفوظ مطمئن آتا تھا اس کے پاس اس کا رزق با فراغت سے

كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ

ہر جگہ تو اس نے ناشکری کی ساتھ نعمتوں کے اللہ کی توجکھایا اس کو اللہ نے لباس

الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿١١٢﴾ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ

بھوک کا اور خوف کا بوجہ اس کے جو تھے وہ کیا کرتے ۱۱۲ آیان کے پاس اور البتہ تحقیق

رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ

ایک رسول ان میں سے تو انہوں نے جھٹلا دیا اس کو تو پکڑ لیا ان کو عذاب نے اور وہ ظالم لوگ

﴿١١٣﴾ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا

۱۱۳ پس کھاؤ اس میں سے جو رزق دیا تم کو اللہ نے حلال پاک (بنا کر) اور شکر کرو

نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١١٤﴾ إِنَّمَا حَرَّمَ

نعمت کا اللہ کی اگر ہو تم صرف اس کی تم عبادت کرتے ۱۱۴ بیشک اس نے حرام کیا

عَلَيْكُمْ أَلْمِيَّةٌ وَالْدَّمُ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهْلَ لِغَيْرِ

تم پر تم پر مردار اور خون اور گوشت اور خنزیر کا اور جو پکارا جائے واسطے غیر

اللَّهِ بِهِ ۖ فَمَنْ أَضْطَرَّ غَيْرَ بَابِغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

اللہ کے ساتھ تو جو کوئی مجبور کیا گیا نہ ہو۔ نہ چاہئے اور نہ خوابس مند کزنے والا حد سے توبیشک اللہ تعالیٰ غفور،

رَحِيمٌ ﴿١١٥﴾ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ

رحیم ہے ۱۱۵ اور نہ تم کہو واسطے اس بیان کرتی ہیں تمہاری زبانیں جھوٹ کو

هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنْ

کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے تاکہ تم گھڑ سکو ہر اللہ پر جھوٹ بیشک

الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿١١٦﴾ مَتَّعْ قَلِيلٌ

وہ لوگ جو گھڑتے ہیں ہر اللہ پر جھوٹ نہیں فلاح پائیں گے ۱۱۶ فائدہ اتھانا ہے تھوڑا سا

وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١١٧﴾ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَمًا مَّا قَصَصْنَا عَلَيْكَ

اور ان کے لئے ہے عذاب دردناک ۱۱۷ اور اوپر ان لوگوں کے جو یہودی حرام کردیا ہم نے جو بیان کیا ہم نے آپ پر

مِن قَبْلٍ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١١٨﴾

اس سے پہلے اور نہیں ظلم کیا تھا ہم نے ان پر لیکن تھے وہ اپنی جانوں پر وہ ظلم کرتے ۱۱۸

۱۱۹. جو کوئی جہالت سے برے عمل کر لے پھر توبہ کر لے اور اصلاح بھی کر لے تو پھر آپ کا رب بلاشک و شبہ بڑی بخشش کرنے والا اور نہایت ہی مہربان ہے۔

۱۲۰. بیشک ابراہیم پیشوا اور اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار اور ایک طرفہ مخلص تھے۔ وہ مشرکوں میں نہ تھے۔

۱۲۱. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، اللہ نے انہیں اپنا برگزیدہ کر لیا تھا اور انہیں راہ راست سمجھا دی تھی۔

۱۲۲. ہم نے اس دنیا میں بھی بہتری دی تھی اور بیشک وہ آخرت میں بھی نیکوکاروں میں ہیں۔

۱۲۳. پھر ہم نے آپ کی جانب وحی بھیجی کہ آپ ملت ابراہیم حنیف کی پیروی کریں، وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔

۱۲۴. ہفتے کے دن کی عظمت تو صرف ان لوگوں کے ذمے ہی ضروری تھی جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا، بات یہ ہے کہ آپ کا پروردگار خود ہی ان میں ان کے اختلاف کا فیصلہ قیامت کے دن کرے گا۔

۱۲۵. اپنے رب کی راہ کی طرف لوگوں کو حکمت اور بہترین نصیحت کے ساتھ دعوت دیجئے اور ان سے بہترین طریقے سے گفتگو کیجئے، یقیناً آپ کا رب اپنی راہ سے بہکنے والوں کو بھی بخوبی جانتا ہے اور وہ راہ یافتہ لوگوں سے پورا واقف ہے۔

۱۲۶. اور اگر بدلہ لو بھی تو بالکل اتنا ہی جتنا صدمہ تمہیں پہنچایا گیا ہو اور اگر صبر کر لو تو بیشک صابروں کے لئے یہی بہتر ہے۔

۱۲۷. آپ صبر کریں بغیر توفیق الہی کے آپ صبر کر ہی نہیں سکتے اور ان کے حال پر رنجیدہ نہ ہوں اور جو مکرو فریب یہ کرتے رہتے ہیں ان سے تنگ دل نہ ہوں۔

۱۲۸. یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں اور نیک کاروں کے ساتھ ہے۔

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمَلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ

بہر بیشک رب تیرا ان لوگوں کے لئے جنہوں نے بے جاہالت میں ناپاکی کی تھی اور انہوں نے توبہ کر لی

ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا غَفُورٌ رَحِيمٌ ۱۱۹

اس کے اور انہوں نے اصلاح کر لی بیشک رب تیرا اس کے بعد البتہ غفور، رحیم ہے ۱۶:۱۱۹

إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

ابراہیم تھے ایک امت مطیع اللہ کے بے شکو اور نہ تھے وہ سے مشرکین میں سے

شَاكِرًا لِأَنْعَمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۱۲۰

شکر کرنے والے اس کی نعمتوں پر اس نے جن لیا اس کو اور ہدایت دی اس کو طرف راستہ کی سیدھے

وَأَتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ۱۲۱

اور دی ہم نے اس کو میں دنیا بھلائی اور بیشک وہ میں آخرت (میں) البتہ سے صالحین (میں سے) ہوگا

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ

پھر وحی کی ہم نے آپ کی طرف کہ پیروی کرو طرفہ کی ابراہیم کی بے شکو اور نہ تھے وہ

مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۱۲۲

مشرکین میں سے) بیشک فرض کیا گیا ہفتے کا دن پر ان لوگوں پر جنہوں نے خلاف ورزی کی

فِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا

اس میں اور بیشک رب تیرا البتہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان دن قیامت کے اس میں جو

كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۱۲۴

تھے وہ جس میں وہ اختلاف کرتے ۱۶:۱۲۴

وَالْمَوْعِظَةُ الْحَسَنَةُ وَجَدَلَهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَبُ إِنَّ

اور ساتھ نصیحت کے عمدہ اور بحث کیجئے ان سے ساتھ اس وہ جو بہترین ہے بیشک

رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

رب تیرا وہ خوب جانتا ہے اس کو جو بہتک گیا سے اس کے راستہ سے) اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوِقْتُمْ بِهِ ۱۲۵

اور اگر بدلہ لو تمہیں تو بدلہ لو مانند اتنا تم کو سزا دیا گیا ہے ساتھ اس کے اور البتہ اگر

صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ۱۲۶

صبر کیا تم نے البتہ وہ بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لئے ۱۶:۱۲۶ اور صبر کیجئے اور نہیں صبر تیرا

إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ

مگر اللہ (کی مدد سے) اور نہ تم غم کرو ان پر اور نہ تم ہو میں گھٹن میں۔ اس سے جو وہ چاہیں چل رہے ہیں تنگی میں

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ۱۲۸

بیشک اللہ تعالیٰ ساتھ ہے ان لوگوں کے جنہوں نے تقویٰ کیا اور ان لوگوں کے وہ جو محسن ہیں ۱۶:۱۲۸